



FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION
COMPETITIVE EXAMINATION - 2018
FOR RECRUITMENT TO POSTS IN BS-17
UNDER THE FEDERAL GOVERNMENT

Roll Number

ISLAMIC STUDIES

| | | |
|---|--------------------------|--|
| TIME ALLOWED: THREE HOURS PART-I(MCQS): MAXIMUM 30 MINUTES | PART-I (MCQS) PART-II | MAXIMUM MARKS = 20 MAXIMUM MARKS = 80 |
|---|--------------------------|--|

- NOTE:** (i) Part-II is to be attempted on the separate Answer Book.
(ii) Attempt FOUR questions from PART-II. ALL questions carry EQUAL marks.
(iii) All the parts (if any) of each Question must be attempted at one place instead of at different places.
(iv) Candidate must write Q. No. in the Answer Book in accordance with Q. No. in the Q.Paper.
(v) No Page/Space be left blank between the answers. All the blank pages of Answer Book must be crossed.
(vi) Extra attempt of any question or any part of the attempted question will not be considered.

PART-II

- Q. No. 2. Define *Ijtihad*, also highlight its contemporary importance in the light of Islamic *Fiqh*. (20)
- Q. No. 3. What is Self-purification and *Ehsan*? Explain it in the light of Quran and Sunnah, also describe its individual and collective impacts. (20)
- Q. No. 4. Point out the motives of terrorism in Pakistan. How can the society get rid of terrorism? (20)
- Q. No. 5. Highlight the responsibilities of civil servants in the light of Islamic teachings. (20)
- Q. No. 6. Write a comprehensive note on Zakat system of Islam and its spiritual, moral and social impacts. (20)
- Q. No. 7. Describe, in detail, the basic characteristics of Islamic civilization. (20)
- Q. No. 8. The Holy Prophet (ﷺ) is the prophet of peace and safety. Explain with arguments. (20)

URDU VERSION

- سوال نمبر 2: اجتہاد کی تعریف کرتے ہوئے فقہ اسلامی کی روشنی میں اس کی عصری اہمیت واضح کریں۔ (20)
- سوال نمبر 3: تزکیہ و احسان سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کرتے ہوئے اس کے انفرادی و اجتماعی اثرات بیان کریں۔ (20)
- سوال نمبر 4: پاکستان میں دہشت گردی کے محرکات کیا ہیں اور معاشرے کو اس سے کیسے نجات دلائی جا سکتی ہے؟ (20)
- سوال نمبر 5: اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سرکاری ملازمین کی ذمہ داریاں واضح کریں۔ (20)
- سوال نمبر 6: اسلام کے نظام زکوٰۃ اور اس کے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی اثرات پر ایک تفصیلی سذرہ سپرد قلم کریں۔ (20)
- سوال نمبر 7: اسلامی تہذیب کی بنیادی خصوصیات تفصیلاً بیان کریں۔ (20)
- سوال نمبر 8: نبی کریم ﷺ پیغمبر امن و سلامتی ہیں۔ دلائل سے واضح کریں۔ (20)
